



سوال

(296) طویل مدت تک عورت سے علیحدگی

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جو شخص اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کے لئے کمائی کرنے کی خاطر ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟؟ یاد رہے کچھ لوگوں کا مقصد اسی طرح کی کمائی سے عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے بنانا یا گاڑیاں اور دینیوی آرائش و زیبائش کا دیگر سامان خریدنا ہوتا ہے لیکن اس طویل علیحدگی کا نتیجہ مرد یا عورت کی طرف سے زنا کی صورت میں بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے یہ دوری ہو، خواہ طویل مدت کے لئے ہو یا مختصر مدت کے لئے تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ دونوں پاکدامنی کا ثبوت دیں اور اس علیحدگی کی وجہ سے اگر دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے بارے میں خدشہ ہو... خواہ کسب معاش کے لئے اسے جانے کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو... تو وہ اپنے ساتھی سے اپنے حق کے لئے مطالبہ کرے کہ جس سے دونوں کے لئے اٹھارہنا ممکن ہو تاکہ عزت کی حفاظت ہو، عفت و پاکدامنی حاصل ہو اور شرم گاہ کی بھی حفاظت ہو۔ اگر وہ حق ادا کرنے سے انکار کرے تو ضرورت مند اپنے معاملہ کو قاضی کے پاس لے جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخص جس کے پاس بیوی نہیں یا ہر وہ بیوی جس کا شوہر اس کے پاس نہیں ضرور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے خواہ مدت کتنی طویل ہی کیوں نہ ہو۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

کتاب النکاح: جلد 3 صفحہ 257

محدث فتویٰ